

COVID-19 وائرس کی مختلف شکلیں اور بوسٹرز حقائق نامہ

COVID-19 بوسٹرز:

مجھے ایک اور ویکسین کی ضرورت کیوں ہے؟

میرے لیے COVID-19 بوسٹرز لگوانے رہنا کیوں ضروری ہے؟

COVID-19 کی پہلی ویکسین کا تحفظ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بوسٹرز اس تحفظ کو بحال کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ COVID-19 کا وائرس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور اصل ویکسینز اور بوسٹرز بھی وائرس کے نئے ورژنز یا نئی شکلوں کے خلاف تحفظ نہیں دیتیں۔ سائنسدان بوسٹرز تشکیل دیتے ہیں جو وائرس کی نئی شکلوں کے خلاف تحفظ دیتی ہیں۔

حالیہ ترین بوسٹر مجھے اب تک لگنے والی ویکسینز سے کیسے مختلف ہے؟

COVID-19 کی اولین ویکسینز—جنہیں ابتدائی سیریز کہا جاتا تھا—اصل COVID-19 وائرس کے خلاف تحفظ کے لیے تشکیل دی گئیں تھیں۔ پہلی بوسٹر نے جسم کو COVID-19 انفیکشن کے لیے تیار رہنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے اس تحفظ کو بحال کیا تھا۔ بالکل حال ہی میں تشکیل کردہ (دوسری) بوسٹر تحفظ کو بحال کرتی ہے اور COVID-19 وائرس کی عمومی ترین شکلوں، BA.4 اور BA.5 (Omicron) کے خلاف تحفظ میں اضافہ کرتی ہے۔

اگر مجھے پہلے ہی COVID-19 ہو چکا ہو تو کیا ہوگا؟

اگرچہ آپ کو COVID-19 ہو چکا ہو تب بھی COVID-19 بوسٹر لگوانا وائرس کے خلاف اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔



مجھے اپنی ویکسینز کے حوالے سے اب تو ڈیٹ کب سمجھا جاتا ہے؟

آپ کی عمر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اب تو ڈیٹ سمجھے جانے کے لیے آپ کو کونسی ویکسینز اور بوسٹرز کی ضرورت ہے۔ یہاں مراکز برائے امراض کا کنٹرول اور تحفظ (CDC) کی سفارشات دی جا رہی ہیں:



عمریں

18 سال سے زائد

علاج

بنیادی سیریز
+
دوسری بوسٹر
(Pfizer یا Moderna کی جانب سے)



عمریں

12 سے 17 سال

علاج

بنیادی سیریز
+
دوسری بوسٹر
(Pfizer یا Moderna کی جانب سے)



عمریں

5 سے 11 سال

علاج

بنیادی سیریز
+
دوسری بوسٹر
(Pfizer یا Moderna کی جانب سے)



عمریں

6 ماہ سے 4 سال

علاج

بنیادی سیریز
+
دوسری بوسٹر
(Pfizer یا Moderna کی جانب سے)

اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو کہ آپ کو کونسی بوسٹر کی ضرورت ہے اور کسے کب لگوانا چاہیے، تو CDC کی [بایمی گفت و شنید کی حامل بوسٹر](#) کوئی میں حصہ لیں۔